

## پر طالب علم شمار ہوتا ہے سروے 2022ء - 23ء

محترم اہل خانہ،

طالب علموں اور خاندانوں کی آراء ہمارے لئے اہم ہیں۔ یارک ریجن ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ طلباء سے (گریڈز K-12) [پر طالب علم شمار](#) [ہوتا ہے سروے](#) کرے گا تاکہ ہماری طلباء کی آبادی اور اسکول کی کمیونٹیز کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہماری مدد ہو سکے۔

معلومات کو بورڈ اور اسکول کی منصوبہ بندی سے مطلع کرنے کیلئے استعمال کیا جائے گا جس کا مقصد طلباء کی کامیابیوں اور فلاح و بہبود کو بہتر بنانا، رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا اور انہیں ختم کرنا ہے اور اسکول کی ماحولیات کو مزید منصفانہ اور جامع بنانا ہے۔

سروے میں مندرجہ ذیل سے تعلق رکھنے والے سوالات شامل ہوں گے:

- مشغولیت اور سیکھنا
- فلاح و بہبود اور ذہنی صحت
- ہائی اسکول میں کورس کے پاتھ ویز
- حفاظت، امتیازی سلوک اور غنڈہ گردی
- ساتھیوں اور عملے کے ساتھ تعلقات
- یکساں اور جامع تعلیمی ماحول
- طالب علم کی شناخت (علم شماریات آبادی سے متعلقہ)

ہم طلباء کی شناخت (مثلاً نسل اور جنس) کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں تاکہ یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ طلباء کے گروپوں میں سیکھنے کے تجربات مختلف کیسے ہو سکتے ہیں۔

2023ء کے موسم بہار میں، گریڈ 4-12 کے طلباء کو طلباء کا سروے مکمل کرنے کیلئے مدعو کیا جائے گا اور اسے مکمل کرنے کے لئے کلاس میں وقت فراہم کیا جائے گا۔ گریڈ 3-K کے طلباء کو ان کے والدین، سرپرستوں یا دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ گھر پر ایک سروے مکمل کرنے کیلئے مدعو کیا جائے گا۔ K-3 سروے کا ترجمہ شدہ مواد دستیاب ہوگا۔

سروے تک مساوی رسائی کو یقینی بنانے کے لئے، مختلف استثنیٰ کے حامل حصہ لینے والوں کے لئے موزونیت کا بندوبست کیا جائے گا۔ آپ کے حوالہ کے لئے، سروے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے سروے کی ایک نقل بورڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔

سرویوز رضا کارانہ اور خفیہ ہیں لیکن گمنام نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلباء سے ان کی شناختی معلومات، جیسے کہ ان کا نام نہیں پوچھا جائے گا۔ انفرادی جوابات رپورٹ نہیں کئے جائیں گے۔ اعداد و شمار کا ذخیرہ اور اسے برقرار رکھنا [یورڈ کی پالیسی اور](#) [پر بقہ کار نمبر 160.0، ریکارڈز اور انفورمیشن مینجمنٹ کی پیروی کیے گئے۔](#)

یہ اہم اقدام طلباء اور خاندانوں کو اپنے تجربات کا اشتراک کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے تاکہ بورڈ طلباء کے مختلف گروپوں کی ضروریات کو سمجھ سکے اور سیکھنے میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی کر سکے۔ سروے کے نتائج 2023ء-24ء کے تعلیمی سال کے دوران ٹرسٹیز، اسکولوں، بورڈ کے محکموں اور عوام کے ساتھ شیئر کئے جائیں گے۔

سروے کی ڈیولپمینٹ کے مرحلے کے دوران خاندانوں کو رائے دینے کا موقع ملے گا۔ مزید معلومات دستیاب ہونے پر خاندانوں کو بتائی جائیں گی۔

2018ء میں، وائی آر ڈی ایس بی (YRDSB) نے ہمارا پہلا ہر طالب علم شمار ہوتا ہے سروے کیا اور اس سروے کا ڈیٹا بورڈ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔

اگر سروے کے بارے میں آپ کے سوالات ہیں، تو براہ مہربانی مزید معلومات کے لئے [بورڈ کی ویب سائٹ](#) پر جائیں یا [research.services@yrdsb.ca](mailto:research.services@yrdsb.ca) پر رابطہ کریں۔

آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔